

NYC FREE TAX PREP

Trusted,
Professional
Filing

فائل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز درکار ہے:



- حکومت سے جاری شدہ با تصویر آئی ڈی (IDNYC شامل ہے)
- سوشل سیکیورٹی کارڈز یا انفرادی ٹیکس دہندہ کے شناختی نمبر کے تعین کے خطوط (اصل، نقل یا الیکٹرانک دستاویز) اور آپ، آپ کے/کی شریک حیات اور آپ کے منحصرین کی ولادت کی تاریخیں



آمدنی کا ثبوت

- فارم W-2, 1098, 1099، یا آمدنی اور خرچ کے ریکارڈز اگر آپ کا اپنا روزگار ہے (فہرست کے لیے nyc.gov/taxprep پر جائیں۔)



دیگر

- 2019 ٹیکس ریٹرن یا ٹرانسکرپٹ (اسسٹڈ سیلف-پریپ کے لیے مطلوب)
- ٹرانسکرپٹ درخواست کرنے کے لیے انٹرنل ریونیو سروس (Internal Revenue Service, IRS) کو 1-800-908-9946 پر کال کریں یا irs.gov ملاحظہ کریں اور "Get Transcript" (ٹرانسکرپٹ حاصل کریں) کو تلاش کریں۔
- فارم 1099-G اگر آپ نے 2020 کے دوران کسی وقت بے روزگاری بیمہ لیا ہو
- فارم حاصل کرنے کے لیے dol.ny.gov پر جاکر "1099-G" تلاش کریں۔
- فارم 1095-A اگر آپ، آپ کی بیوی/ آپ کے شوہر یا آپ کے زیر کفالت افراد نے ہیلتھ پلان مارکیٹ پلیس کے ذریعہ کسی صحت بیمہ منصوبے میں اندراج کرایا ہو
- نگہداشت طفل کے لیے ادائیگی کے ریکارڈز، بشمول فراہم کنندہ کا نام، پتہ اور آجر کا شناختی نمبر، ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر یا سوشل سیکیورٹی نمبر
- تعلیمی اخراجات کے ریکارڈز جیسے فارم 1098-T یونیورسٹی یا تکنیکی کالج میں جانے کے لیے ٹیوشن کی ادائیگیوں کے لیے یا فارم 1098-E اگر آپ نے طالب علم والے لون پر سود ادا کیا
- اپنے ریفرنڈ کے لیے ڈائریکٹ ڈپازٹ کے لیے اکاؤنٹ یا روٹنگ نمبرز

اگر آپ مشترک ریٹرن فائل کر رہے ہیں، تو شوہر اور بیوی دونوں کو دستخط کرنے چاہئیں۔

بلا معاوضہ فائل کرنے اور واپسی کی پوری رقم محفوظ رکھنے کے لیے NYC کی مفت ٹیکس کی تیاری (NYC Free Tax Prep) استعمال کریں۔

خاندانوں کے لیے

2020 میں \$68,000 یا اس سے کم آمدنی۔



تنہا فائل کرنے والوں کے لیے

2020 میں \$48,000 یا اس سے کم آمدنی۔



درست ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیے ذی علم IRS سے تصدیق یافتہ VITA / TCE رضاکار کے ساتھ تعاون کریں۔ طریقہ کار کا انتخاب کریں:

- ورجنل ٹیکس کی تیاری* (Virtual Tax Prep) بہ ان-پرسن ٹیکس پریپ (ذاتی طور پر ٹیکس کی تیاری) ہے لیکن آن لائن ہے!
- معاون خود تیاری* (Assisted Self-Prep) بلا معاوضہ فائلنگ سافٹ ویئر کے مدد سے اپنے ٹیکس آن لائن فائل کریں لیکن مدد کے لیے کسی رضاکار کو فون یا ای میل کریں۔
- ڈراپ-آف سروس* (Drop-off Service) اپنے ٹیکس کے کاغذات پیٹی میں ڈالیں اور بعد میں مکمل شدہ ریٹرن کا کاغذ اٹھالیں۔
- ان-پرسن ٹیکس پریپ* (In-Person Tax Prep) ٹیکس کاغذات تیار کرنے والے رضاکار کے ساتھ بیٹھیں۔

مزید معلومات کے لیے nyc.gov/taxprep پر جائیں یا 311 پر فون کر کے ٹیکس کی تیاری میں معاونت کے بارے میں دریافت کریں۔

NYC

Bill de Blasio
Mayor

Consumer and
Worker Protection

Lorelei Salas
Commissioner